

Psa

Chapter 32

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 לְדָוִד כָּא-דָּוִד מְשֻׁכָּל אֲשֶׁרִי נְשׂוּי-פֶשַׁע כִּסְיִי חַטָּאָה:
1732 1905 835 375 588 680 401
1732 1905 835 375 588 680 401
1732 1905 835 375 588 680 401

1732 1905 835 375 588 680 401
1732 1905 835 375 588 680 401
1732 1905 835 375 588 680 401

2 אֲשֶׁרִי אָדָם לֹא יַחֲשֹׁב יְהוָה לֹא עֲזָן וְאִין בְּרוּחוֹ רַמְיָה:
835 10120 3808 2803 3068 5771 369 7307
835 10120 3808 2803 3068 5771 369 7307
835 10120 3808 2803 3068 5771 369 7307

835 10120 3808 2803 3068 5771 369 7307
835 10120 3808 2803 3068 5771 369 7307
835 10120 3808 2803 3068 5771 369 7307

3 כִּי- כִּי־מִי-נֶ-חַמוּשִׁי-רִכְהִי בְּלוֹ קַמְזוּר-בּו-גְנִי עֵצְמִי מִירִי-בְּדִיאַן מִירִי-כִּי-חַיִּי-מִי כָל- הַיּוֹם:
1086 11086 6106 7581 3605 3117
1086 11086 6106 7581 3605 3117
1086 11086 6106 7581 3605 3117

1086 11086 6106 7581 3605 3117
1086 11086 6106 7581 3605 3117
1086 11086 6106 7581 3605 3117

4 וְכִי יוֹמָם וְלַיְלָה תִּכְבֵּד עָלַי מִי-מִי-בְּדִקָּה אֲדָרְבָּה וְנִשְׁבַּח לְשִׁירִי מִירָא-רֶס חֲשֵׁק-סָלִיבוֹן-מִי קִיץ
3119 3915 3513 3027 2015 3955 2725 7019
3119 3915 3513 3027 2015 3955 2725 7019
3119 3915 3513 3027 2015 3955 2725 7019

סְלָה:
סְלָה
5542

5542 5542 5542 5542 5542 5542 5542 5542
5542 5542 5542 5542 5542 5542 5542 5542
5542 5542 5542 5542 5542 5542 5542 5542

5 חַטָּאתִי מִירָא-גָּנָה מִי-נֶ-תַּחֲבֵה-בְּתַיָּא אֲדָרְבָּה אֲדָרְבָּה עָלַי
3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045
3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045
3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045

3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045
3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045
3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045

3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045
3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045
3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045 3045

6 עָלַי- זָאת יְתַפְּלִל כָּל- וְחִסִּיד אֲלֵיךָ לָעֵת מְצָא רָק לְשִׁטְרָה מְנוּם
2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325
2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325
2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325

2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325
2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325
2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325

2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325
2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325
2063 6419 3605 2623 0413 6256 4672 7535 7858 4325

7	אֶתָּה	סֵתֶר	לִי	מִצָּר	אֲצִינִי	רִנִּי	פִּלְטָה
	تُو	پناہ-گاہ-بے	میرے-لیے	-مصیبت-سے	تُو-میری-حفاظت-کرے-گا	گیتوں-سے	چھٹکارے-کے
						H7438	H6405

תְּסֹבְבֵנִי סֶלָה:
 تُو-مجھے-گھیر-لے-گا
 سیلاہ
[H5542](#) [H5437](#)

(سیلاہ)بے۔ لیتا گھیر سے نغموں کے نجات مجھے رکھتا، محفوظ سے پریشانی مجھے تُو ہے، جگہ کی چھینے میری تُو

8	וְאֶשְׂכְּלָהּ	וְאֹרְחָהּ	בְּרִדְךָ-	זוּ	תִּלְכָּהּ	אֵיעָצָה	עֲלִיךָ
	میں-تجھے-سمجھاؤں-گا	اور-تجھے-سکھاؤں-گا	-راستے-میں	یہ	تُو-چلے-گا	میں-مشورہ-دوں-گا	-تجھ-پر
				H2098	H3212	H3289	

עֵינַי:
 میری-نظر

گا۔ کروں بہال دیکھ تیری کر دے مشورہ تجھے میں ہے۔ جانا تجھے پر جس گا دکھاؤں راہ وہ تجھے گا، دوں تعلیم تجھے میں

9	אֶל-	הָהָרִים	כְּסוּס	כְּפָרָה	אֵין	הֶבְרִין	בְּמִתְנֶה	וְרָסָן	עֲדִינוּ
	نہ	ہو	-گھوڑے-کی-طرح	-خچر-کی-طرح	نہیں	سمجھ	-لگام-سے	اور-باگ-ڈور	اُس-کی-سجاوٹ
	H0408	H1961		H6505	H0369	H0995	H4964	H7448	H5716

لְבָלוֹם
 -روکنے-کے-لیے
 לָל
 نہیں
 קָרֵב
 قریب-آئے-گا
 אֶלְיָךְ:
 -تیرے-پاس
[H1102](#) [H1077](#) [H7126](#) [H0413](#)

گے۔ آئیں نہیں پاس تیرے وہ ورنہ ہے، ضرورت کی دبانے اور لگام لٹے کے پانے قابو پر جن ہو، نہ مانند کی خچر یا گھوڑے ناسمجھ

10	רָבִים	מְכֹאזִים	לְרִשָּׁע	וְהַבּוֹטָח	בֵּיהוָה	אֲחָד	יְסוֹבְבֵנִי:
	بہت	درد	-شریر-کے-لیے	اور-بھروسہ-رکھنے-والے	-یہوواہ-پر	رحمت	اُسے-گھیر-لے-گی
		H4341	H7563	H0982	H3068		H5437

ہے۔ رکھتا گھیرے سے شفقت اپنی وہ اُسے رکھے بھروسا پر رب جو لیکن ہیں، ہوتی پریشانیوں متعدد کی بے دین

11	שְׂמֵחוּ	בֵּיהוָה	וְנִילוּ	צְדִיקִים	יְהִרְנִינוּ	כָּל-	יִשְׂרָאֵל	לֵב:
	خوشی-مناؤ	-یہوواہ-میں	اور-خوشی-کرو	اے-راستبازو	اور-نعرے-لگاؤ	سب	سیدھے-دلوں	دل-والے
	H8055	H3068	H1523	H6662		H3605	H3477	

لگاؤ!نعرے کے شادمانی دارو، دیانت تمام اے مناؤ! جشن میں خوشی کی رب بازو، راست اے